

10670 - عدت گزارنے والی عورت پر ممنوع کردہ اشیاء

سوال

میرا خاوند فوت ہوچکا ہے لہذا مجھے کیا کرنا چاہیئے ، اور وہ کون کون سی اشیاء ہیں جن سے مجھے بچنا ضروری ہے ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

عدت گزارنے والی عورت پر حدیث کی روشنی میں پانچ چیزوں سے رکنا ضروری ہے :

اول : جس گھر میں خاوند کی فوتگی کے وقت رہائش پزیر ہو وہیں عدت گزارنا ، اس کی عدت چار ماہ دس دن یا پھر حمل کی صورت میں وضع حمل ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

اورحمل والیوں کی عدت وضع حمل ہے -

اور اس گھر سے بلاضرورت نہیں نکل سکتی مثلاً بیماری کی حالت میں ہاسپٹل جانا یا اگر اس کے پاس کوئی اور نہیں ہے جو اس کے لیے کھانا خریدے تو پھر بازار سے کھانا وغیرہ خریدنے کے لیے نکلنا وغیرہ -

اور اسی طرح اگر وہ گھر منہدم ہو جائے تو کسی اور گھر میں جاسکتی ہے ، یا پھر اگر اسے مانوس رکھنے کے لیے کوئی نہ ہو اور وہ خطرہ محسوس کرے تو پھر وہاں سے جانے میں کوئی حرج نہیں -

دوم :

اسے خوبصورت لباس وغیرہ زیب تن نہیں کرنا چاہیئے نہ توسبزاور نہ ہی سرخ وغیرہ بلکہ اسے ایسا لباس زیب تن کرنا چاہیئے جو خوبصورت نہ چاہیئے وہ سیاہ ہو یا سبز یا پھر کسی اور رنگ کا یعنی وہ خوبصورت نہ ہو ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح حکم دیا ہے -

سوم :

دوران عدت سونے اور چاندی الماس اور ہیرے جواہرات کے زیورات نہ پہننا ، اور اسی طرح کے دوسری اشیاء

جوزیورات میں شامل ہوتی ہیں چاہے وہ بار ہوں یا پھر کنگن اور انگوٹھی وغیرہ -

چہارم :

خوشبو بھی استعمال نہیں کرسکتی ، بخور اور کسی قسم کی بھی دوسری خوشبو کا استعمال منع ہے ، لیکن جب وہ حیض سے فارغ ہوتو اس وقت جو خوشبو استعمال کی جاتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ اس بو کو دور کرنے کے لیے خوشبو استعمال کر لے -

پنجم :

سرمہ وغیرہ کے استعمال سے بھی پرہیز کرے ، اور اسی طرح چہرے کی زیبائش کے لیے پائی جانے والی اشیاء کا استعمال بھی ممنوع ہے - لیکن صابون وغیرہ کے استعمال میں کوئی حرج نہیں بلکہ سرمہ اور کاجل وغیرہ جو کہ عورتیں خوبصورتی کے لیے استعمال کرتی ہیں وہ ممنوع ہے -

جس کا خاوند فوت ہو جائے اسے مندرجہ بالا پانچ اشیاء کے استعمال سے پرہیز کرنی چاہیے -

لیکن بعض لوگ جو یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ عورت کسی سے بات چیت بھی نہ کرے اور نہ ہی ٹیلی فون اٹینڈ کرے ، اور اسے صرف ہفتہ میں ایک بار غسل کرنا چاہیے ، اور اسے گھرمیں ننگے پاؤں چلنا چاہیے ، اور اسی طرح وہ چاند کی روشنی میں بھی نہ نکلے اور اس طرح کی دوسری خرافات جس کے بارہ میں کوئی دلیل اور اصل نہیں ملتی -

بلکہ وہ اپنے گھرمیں ننگے پاؤں اور جوتے پہن کر بھی چل سکتی ہے اور اپنے گھر کی ضروریات بھی پورا کرسکتی اور کھانا وغیرہ بھی پکا سکتی ہے اور اسی طرح مہمان نوازی بھی کرسکتی ہے -

اور اسی طرح چاند کی روشنی میں گھر کی چھت اور باغیچہ میں بھی چل پھر سکتی ہے ، جب چاہے غسل کرسکتی ہے جس سے چاہے ضروری بات چیت کرسکتی ہے ، عورتوں سے مصافح کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں اور اسی طرح اپنے محرموں سے بھی -

لیکن غیر محرموں کے ساتھ جائز نہیں ، جب اس کے پاس کوئی غیر محرم نہ ہوتو وہ اپنے سر دوپٹہ اتار سکتی ہے ، زعفران اور خوشبو نہ تو کپڑوں میں اور نہ ہی جسم میں استعمال کرسکتی ہے اور نہ ہی قہوہ میں اس لیے کہ زعفران ایک قسم کی خوشبو ہے ، اس کے لیے منگنی کرنا بھی جائز نہیں ، اور اسی طرح منگنی کی صریح باتیں کرنا بھی منع ہیں ، لیکن اگر وہ صراحت کے ساتھ بات نہ کرے بلکہ کنایہ وغیرہ کرتے ہوئے کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں -

اللہ تعالیٰ ہی توفیق بخشنے والا ہے ، فتویٰ شیخ ابن باز رحمہ اللہ تعالیٰ دیکھیں فتاویٰ اسلامیة (3 / 315 - 316) -

اورمزید تفصیل کے لیے دیکھیں کتاب : الامداد باحکام الحداد تالیف فیحان المطیری ، اور کتاب احکام الاحداد تالیف
خالد المصالح -

والله اعلم .